

'پرفارمنگ آرٹس برامپٹن' اگست کے پورے مہینے کے دوران لائیو موسیقی، تھیٹر اور دلکش ثقافتی پروگرام پیش کر رہا ہے

برامپٹن، آن (12 اگست 2022) – سٹی آف برامپٹن اس موسم گرما میں 'گارڈن اسکوائر' اور 'روز برامپٹن' دونوں جگہوں پر لطف اندوز ہونے کے لیے لائیو موسیقی، تھیٹر کی تفریح اور رنگا رنگ ثقافتی پروگرام پیش کرنے کے لیے پرجوش ہے۔

پرفارمنگ آرٹس برامپٹن درج ذیل شوز کی میزبانی کر رہا ہے:

سٹومپ این سٹیمپیڈ (Stomp N Stampede) – مورخہ 13 اگست کو شام 4 تا 8 بجے تک، گارڈن اسکوائر برامپٹن

اپنی کاؤ بوائے ہیٹ اور بوٹ پکڑیں – اور اپنے ساتھ شاید ایک ڈانسنگ پارٹنر بھی! سٹومپ این سٹیمپیڈ ملکی سطح کے جشن منانے کے لیے گارڈن اسکوائر میں اس مرتبہ 13 اگست کو جلوہ گر ہو رہا ہے! میزبان DJ جونی ریوکس اسپننگ لائیو اور ہیڈ لائٹر نکول رے کی شاندار پرفارمنس سے لطف اندوز ہوں۔ اس کے علاوہ، ڈبل ٹریبل لائن ڈانسرز کے لائن ڈانسنگ اسباق سے مستفید ہونا ہر گز نہ بھولیں۔

ایکراس دی پونڈ (Across The Pond) – مورخہ 25 اگست کو رات 8 بجے، روز برامپٹن میں

Leisa Way اور حیرت انگیز حد تک با صلاحیت '5 پیس لونی ہارٹس کلب بینڈ' کے ساتھ شامل ہو جائیں کیونکہ وہ آپ کو موسیقی کی ایک شاندار مہم میں لے جاتے ہیں۔ تاریخ کے اس اہم ترین وقت کی یادوں کو تازہ کریں جب برطانوی پاپ میوزک نے لیورپول کے موپ کے سر والے چار لڑکوں نے "Across the Pond" کی بدولت شہرت اور مقبولیت کے جھنڈے گاڑ دیے۔ پورے شمالی امریکہ میں تیزی سے پھیلتے ہوئے، یہ "The British Invasion" کے نام سے مشہور ہوا جو کوڈ ورڈ، "Beatlemania" سے شروع ہوا تھا!

Across the Pond برطانوی پاپ اور راک موسیقی کے 50 سال کا جشن مناتا ہے جو 60 کی دہائی کے سنسنی خیز بٹ سے لے کر آج کے سب سے بڑے ستاروں تک، میوزیکل رائٹرز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، مثلاً: The Beatles, The Rolling Stones, Elton John, Tom Jones, Elvis Costello, The Who, Sting & the Police; Annie Lennox, The Kinks بہت کچھ! اس زبردست ہٹ کنسرٹ میں ایک رات تفریح کرنے کے لیے اپنے ڈانسنگ جوتے پہنیں، جسے آپ چھوڑنا نہیں چاہیں گے!

مون سون ساؤنڈ (Monsoon Sound) – مورخہ 27 اگست کو رات 7 بجے، روز برامپٹن کی لابی میں

پرفارمنگ آرٹس برامپٹن کو ایک ایسی کمیونٹی میں خدمات سر انجام دینے پر فخر ہے جہاں اس کے 44.3 فیصد باشندے جنوبی ایشیائی پس منظر کے حامل ہیں۔ مختلف کمیونٹیز کے اس خوبصورت گلدستے میں سے آگے بڑھتے ہوئے نوجوان، جنوبی ایشیائی کمیونٹیز کی نئی آوازوں اور اظہار کی نئی شکلوں کے ساتھ ابھر رہے ہیں۔ جنوبی ایشیائی ہپ ہاپ کے عروج کے ساتھ مختلف ثقافتوں کا انوکھا امتزاج دیکھیں، جہاں بھنگڑا جیسی روایتی آوازیں اکثر کلاسک بوم-بوم، ہموار جاز ریپ سے لے کر ٹریپ بیٹس تک ہر چیز کے ساتھ جڑی ہیں اور یہ سب کچھ جنوبی ایشیائی ہپ ہاپ کے مفت تہوار میں نوویز (Noyz) کی جانب سے درج ذیل خصوصیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا:

- سکھ نالج اور بے بمبے (Sikh Knowledge & Hey Bombay)
- ڈی جے روشانی (DJ Roshanie)
- سدھارتھا (Siddhartha)
- کیرالانکا (Keralanka)
- تنویر روز (Tanvir Rose)
- سپٹی (Spitty)

ستمبر میں پیش کیا جا رہا ہے

فلو فیسٹ (Flow Fest) – مورخہ 17 ستمبر کو شام 7:30 بجے، روز برامپٹن میں

پہلی بار فلو فیسٹول، برامپٹن انٹرنیشنل ڈرمنگ فیسٹیول میں اپنے دل کی دھڑکنیں سنیں! اس دلچسپ شام میں ہیڈ لائنرز The Larnell Lewis Band اور The Joy Lapps Project بھی شامل ہیں۔ گریمی ایوارڈ یافتہ، برامپٹن کے ابھرتے ہوئے موسیقار، دھن ساز اور استاد، لارنل لیوس اور گریمی کے لیے نامزد موسیقار، دھن ساز اور استاد جوائے لیبیس، افریقن کیریبین اور جاز کے جوڑے کی موسیقی کی دھنوں کی قیادت کریں گے، جو یقینی طور پر اپنے سامعین کے دلوں کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں۔

نگوما کے ساتھ رقص، ڈھول اور پارٹی، جو کینیڈا کے نوجوانوں کی قیادت آگے بڑھنے والے سب سے بڑے جوڑوں میں سے ایک ہے۔ رات کا یہیں پر اختتام نہیں ہوتا - DJ Joshua Lucas کے ساتھ جلوہ گر موسیقی کی تھاپ، کھانا، آرٹ کی نمائش اور دیگر بہت سی راعنائیوں میں سامعین پوری دنیا کی ڈھول کی تھاپوں، موسیقی اور ثقافت کی شام میں ڈوب جائیں گے۔

پرفارمنگ آرٹس برامپٹن کے شیڈول شوز کے بارے میں [یہاں](#) مزید جانیں۔

اقتباسات

"پرفارمنگ آرٹس برامپٹن رہائشیوں اور مہمانوں کے لیے ستمبر میں اچھی طرح سے لطف اندوز ہونے کے لیے لائیو میوزک، تھیٹر اور ثقافتی تجربات کی ایک شاندار لائن اپ پیش کرتا رہتا ہے! موسم گرما کے ان بقیہ ہفتوں کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے تمام طے شدہ شو ضرور دیکھیں۔ خاندان میں ہر فرد کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہے، جس سے لطف اٹھائیں!"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"پرفارمنگ آرٹس برامپٹن رہائشیوں اور مہمانوں کو لطف اندوز ہونے کے لیے دلچسپ اور متنوع تجربات کے مواقع پیش کرتا رہتا ہے! برامپٹن مختلف خوبصورت کمیونٹیز پر مشتمل ہے اور ہمارے ثقافتی پروگرام ہماری کمیونٹی کو تقویت دینے میں مدد دیتے ہیں۔ میں ہر ایک کو موسیقی اور تفریح کے ان پروگراموں سے لطف اندوز ہونے کی ترغیب دیتی ہوں!"

- رووینا سینٹوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ چیئر، کمیونٹی سروسز، سٹی آف برامپٹن

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ [ٹویٹر](#)، [فیس بک](#) اور [انسٹاگرام](#) پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

multiculturalmedia@brampton.ca